





# كھلائی پودوں سے بات كرتی ہے

-  Ursula Nafula
-  Jesse Pietersen
-  Samrina Sana
-  2
-  اردو ur

یہ کھائی ہے۔ وہ نعت بدل کی ہے۔ اس کی زبیر لبوکوسو میں  
اس کے دم کا مطلب ہے، 'بہت اچھ'۔

کھائی اٹھتی ہے اور ہلٹوں کے درخت سے جت کرتی ہے۔ 'براہ  
کرم ہلٹے کے درخت، بڑے ہو جو اور ہمیں بہت زیدہ ہلٹے دو۔'

كھائى اسكول كى طرف چلتى ٲے۔ اور راستے ميں وه گھس سے  
ٲٲ كرتى ٲے۔ 'براھ كرم گھس سبز ٲو چو، اور سو كھلا مت۔'

كھائى جنكلى پھولون كے ٲس سے گزرتى ہے۔ ’براہ كرم پھول  
تروٹزه رھوٹا كه ميں تمھيں اپنے ٲلون ميں لا سكوں۔‘

اسکول میں کھلائی نے صحن کے وسط میں درخت سے ہٹ کی۔  
'درخت برائے مہربانی، بڑی تلخیں نکلوانا کہ ہم آپ کے سایہ کے  
نیچے پڑھ سکیں۔'

کھائی اپنے اسکول کے ارد گرد جنگلے سے ہٹ کرتی ہے۔ 'براہ  
کرم مضبوط ہو جؤ اور خراب لوگوں کو آنے سے روک دو۔'

جب کھائی اسکول سے گھر واپس آتی ہے، تو وہ ہلٹوں کے  
درخت کے پس جتی ہے کھائی پوچھتی ہے 'کی تمہرے ہلٹے پک  
گئے اہے؟'






دلے ابھی بھی کچے ہیں کھائی نے آہ بھری۔ میں تم سے کل  
ملنے آوں گی دلوں کے درخت کھائی نے کچ۔ دلند تب تمہارے  
پس میرے لیے ایک رس بھرا دل موجود ہو۔



# Global Storybooks

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

كھلائی پودوں سے بات كرتی ہے

-  Ursula Nafula
-  Jesse Pietersen
-  Samrina Sana

